

سُورَةُ الْبَيْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے ①

وَالْبَيْلِ إِذَا يَعِشِي ①

اور دن کی جب وہ روشن ہو ②

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ②

اور قسم ہے اس حکمت اکی کہ پیدا کیے اس نے **نروادہ** ③

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ③

بے شک تمہاری **گوششیں** مختلف قسم کی ہیں ④

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ④

سو وہ جس نے **دیا مال اللہ کی راہ میں**، اور ڈرتا رہا ⑤

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤

اور سچ مانا بھلائی کو ⑥

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥

سو توفیق دیں گے ہم اس کو راحت کے راستے کی ⑦

فَسُنَّيِرُهُ لِّلْيسْرَى ⑦

اور وہ جس نے **سجّل کیا** اور بے نیازی برقی ⑧

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧

اور جھٹلایا بھلائی کو ⑨

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨

تو ہم پہنچائیں گے اسے **سختی** میں ⑩

فَسُنَّيِرُهُ لِّلْعُسْرَى ⑩

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ

اور نہ کام آئے گا اس کے اس کا مال

إِذَا تَرَدَّى ⑪

جب گرے گا وہ (دوزخ کے) گڑھے میں ⑪

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫

بے شک ہم اے ذمہ ہے راہ دکھانا ⑫

وَأَنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ⑬

اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت کے اور دنیا کے بھی ⑬

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ⑭

پس میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ⑭

لَا يَصِلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮

نہیں جھلے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت ⑮

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯

جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ⑯

وَسَيَجْجِبُهَا الْأَتَقَى ⑰

اور بچالیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار ⑰

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ⑱

جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کی خاطر ⑱

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی ایسا احسان

تُجْزَى ⑲

کہ اس کا بدلہ دیا جائے ⑲

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ⑳

(وہ دیتا ہے) محض خوشنودی چلنے کی خاطر اپنے ربِ اعلیٰ کی ⑳

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ㉑

اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا ㉑